

فہم قرآن سلسلہ 1

ترجمہ قرآن ورک بک

سورہ یونس



مرتب

مفتی منیر احمد صاحب

استاذ الحدیث

جامعہ معبد العالی الاسلامیہ (مئز)

فاضل: جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

المنیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن (مئز)

MARKAZ TALEEM-O-TARBIYAT FOUNDATION



فہم قرآن سلسلہ 1

ترجمہ قرآن ورک بک



سورہ یونس

مرتب
صفیقہ میرا محمد صاحب

استاذ الحدیث

جامعہ معینہ العالیہ الاسلامیہ (دہرا)
فاضل: جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

المینیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن (پشاور)
MARKAZ TALEEM-O-TARBIYAT FOUNDATION



{ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں }

- ◀ کتاب کا نام : ترجمہ قرآن و رک بگ
- ◀ مرتب : مفتی نذیر احمد صاحب
- ◀ طباعت : رجب المرجب 1443ھ / فروری 2022ء
- ◀ ناشر : المنیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن (پشاور)
- ◀ ای میل : admin@almuneer.pk
- ◀ ویب سائٹ : almuneer.pk
- ◀ فیس بک : AlMuneerOfficial
- ◀ یوٹیوب : Al Muneer Markaz Taleem-O-Tarbiyat Foundation

ملنے کا پتہ

جامعہ معہد العلوم الاسلامیہ

متصل جامع مسجد الفلاح بلاک "H" شمالی ناظم آباد، کراچی

فون نمبر: 0331-2607204 - 0331-2607207

فہرست مضامین


نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
لیول 3: مرکبات (مفیدہ)			لیول 1: مفردات		
17	ضمیر مرفوع منفصل	30	1	اسماء الحسنى اور صفات	6
18	ضمیر والے جملے	31	2	1(2) سے لیکر 10 تک گنتی لکھیں	6
19	ضمیر متصل فعل کے ساتھ	32	3	3(3) معنی اور ضد بتائیں	7
20	اسماء اشارات	33	4	4(4) اردو الفاظ کی عربی بتائیں	9
21	قرآنی مشق	36	5	5(5) عربی الفاظ کی اردو بتائیں	10
22	اسماء موصولات	37	6	اسم فاعل	11
23	قرآنی مشق	39	7	قرآنی مشق	12
24	شرطیہ جملے	46	8	اسم مفعول	13
25	سوالیہ جملے (استفہامیہ)	49	9	قرآنی مشق	15
26	تاکیدی جملے/ بذریعہ حروف إِنَّ، أَنَّ	52	لیول 2: مرکبات (غیر مفیدہ)		
27	تاکیدی جملے/ بذریعہ نون ثقیلہ، خفیفہ	56	10	صفت والے جملے (موصوف، مفت)	18
28	تاکیدی جملے/ بذریعہ حروف تمبیہ	57	11	اضافت والے جملے (مضاف، مضاف الیہ)	19
29	تاکیدی جملے/ بذریعہ حروف تخصیض	58	12	حرف جر	20
30	تاکیدی جملے/ بذریعہ حروف استثناء	59	13	قرآنی مشق	22
31	منفی جملے	61	14	حروف مشبہ بالفعل/ قرآنی مشق	24
32	باعتبار صفات جملے کی 6 قسمیں	64	15	ضمیر اسم کے ساتھ	25
			16	ضمیر لفظ آیا کے ساتھ	28

ترجمہ قرآن ورک بک

{4}

فہرست

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
72	باب کرم یکرم	43	65	قرآنی مصادر	33
72	باب حسب محسب	44	66	فعل کی تقسیم باعتبار حرف علت وہمزہ	34
73	باب افعال	45	67	حروف اصلیہ اور زائدہ	35
74	باب تفعیل	46	67	حروف کی قسمیں اور تعریف	36
74	باب مفاعلہ	47	68	حروف اصلیہ اور زائدہ پہچاننے کا طریقہ	37
74	باب تفعّل	48	69	وزن معلوم کرنے کا طریقہ	38
74	باب تفاعل	49	70	باب نصر ینصر	39
75	باب افتعال	50	71	باب ضرب ینضرب	40
75	باب استفعال	51	71	باب فتح یفتح	41
76	باب مخلوط	53	72	باب سمع ینسمع	42
77	قرآنی صیغے حل کریں	54			



لیول: 1

مفردات □

اسماء الحسنی اور صفات

(1) اسماء الحسنیٰ کا معنی بتائیں

لفظ	ترجمہ	لفظ	ترجمہ
1- اللہ (3)		6- الْعَفُورُ (107)	
2- شَهِيدٌ (46)		7- الرَّحِيمُ (107)	
3- السَّمِيعُ (65)		8- ذُو فَضْلٍ (60)	
4- عَلِيمٌ (36)		9- حَيُّو الْحَكِيمِينَ (109)	
5- الْغَنِيُّ (68)			

(2) ایک سے لیکر دس تک عربی میں گنتی لکھیں / سنائیں

لفظ	معنی
سِتَّةَ أَيَّامٍ (3)	

(3) معنی بتائیں اور ضد بتائیں

لفظ	معنی	ضد
1- صِدْقٍ (2)		
2- الْحَقِّ (23)		
3- اللَّيْلِ (6)		
4- الْأَرْضِ (6)		
5- الشَّرِّ (11)		
6- الضَّرِّ (12)		
7- الْغَيْبِ (20)		
8- الْبَرِّ (22)		
9- ذِلَّةً (26)		
10- الضَّلَلِ (32)		
11- تَصْدِيقٍ (37)		
12- شِفَاءً (57)		
13- حَرَامًا (59)		
14- أَصْغَرَ (61)		
15- حَوْفٍ (62)		

لفظ	معنی	ضد
16- قَبْلُ (74)		
17- خَلْفٌ (92)		
18- الْعِلْمُ (93)		
19- كُلُّ (30) / جَمِيعٌ (4)		
20- شَكٌّ (94)		
21- رَجُلٍ (2)		
22- نُورًا (5)		
23- قَائِمٌ (12)		
24- صَادِقٌ		
25- أَكْثَرُ (36)		

4) اردو الفاظ کی عربی بتائیں

عربی	اردو	عربی	اردو
	13- نفس		1- عرش
	14- قرآن		2- سورج
	15- علم		3- چاند
	16- عمل		4- روشنی
	17- رزق		5- آگ
	18- ذرۃ		6- لوگ
	19- آخرت		7- منکر
	20- اجر		8- موج
	21- قوم		9- جگہ
	22- وکیل		10- مثال
	23- ظن/گمان		11- دین
			12- زیادہ

5) اردو میں معنی بتاؤ

لفظ	معنی	لفظ	معنی
1- الْفُلْكَ (73)		14- الْقِسْطُ (4)	
2- مَتَاعٌ (70)		15- أَجَلٌ (11)	
3- مَاءٌ (24)		16- مَوْعِظَةٌ (57)	
4- الْأَنْعَامُ (24)		17- هُدًى (57)	
5- أَمْسٌ (24)		18- رَحْمَةٌ (57)	
6- الْحُسْنَى (26)		19- الْبَشْرَى (64)	
7- عَاصِمٌ (27)		20- الْفَوْزُ (64)	
8- بَرِيءٌ (41)		21- وَالدُّ (68)	
9- مُظْلَمٌ (27)		22- عَمَةٌ (71)	
10- مُبْصِرٌ (67)		23- الْكِبْرِيَاءُ (78)	
11- قِطْعًا (27)		24- ذُرِّيَّةٌ (83)	
12- شَيْءًا (44)		25- رِجْسٌ (100)	
13- سَاعَةً (45)		26- التَّنْذُرُ (101)	

اسم فاعل

سوال: اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟

جواب: وہ اسم ہے جو کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دے۔ مثلاً لکھنے والا، پڑھنے والا وغیرہ

سوال: اگر ماضی تین اور چار حرفی ہو تو اسم فاعل کی گردان کس طرح ہوگی؟

جواب: تین اور چار حرفی ماضی کی اسم فاعل کی گردان اس طرح ہوگی:

معنی	چار حرفی	تین حرفی	صیغہ
کام کرنے والا ایک مرد	مُفْعَلٌ	فَاعِلٌ	واحد مذکر
کام کرنے والے دو مرد	مُفْعَلَانِ / مُفْعَلَيْنِ	فَاعِلَانِ / فَاعِلَيْنِ	تثنیہ مذکر
کام کرنے والے سب مرد	مُفْعَلُونَ / مُفْعَلِينَ	فَاعِلُونَ / فَاعِلِينَ	جمع مذکر
کام کرنے والی ایک عورت	مُفْعَلَةٌ	فَاعِلَةٌ	واحد مؤنث
کام کرنے والی دو عورتیں	مُفْعَلَتَانِ / مُفْعَلَتَيْنِ	فَاعِلَتَانِ / فَاعِلَتَيْنِ	تثنیہ مؤنث
کام کرنے والی سب عورتیں	مُفْعَلَاتٌ	فَاعِلَاتٌ	جمع مؤنث

پہچان کا طریقہ:

- تثنیہ والے اسم کے آخر میں ”اَنِ“ اور ”اَيْنِ“ کی آواز پیدا ہوگی۔
- جمع مذکر سالم (عاقِل) کے آخر میں ”اُونِ“ اور ”اَيْنِ“ کی آواز پیدا ہوگی۔
- جمع مؤنث سالم (عاقِل) کے آخر میں ”اَتْ“ اور ”اَتِ“ کی آواز پیدا ہوگی۔

• استاذ محترم ان اسم فاعل کی گردان کو ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھائیں۔

- | | |
|--|--|
| (1) واحد مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی نیچے کی طرف | (2) تثنیہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں نیچے کی طرف |
| (3) جمع مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں نیچے کی طرف | (4) واحد مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی نیچے کی طرف |
| (5) تثنیہ مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں نیچے کی طرف | (6) جمع مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں نیچے کی طرف |

قرآنی مشق

● اسم فاعل کی گردان کریں اور معنی بتائیں۔

معنی	الفاظ	معنی	الفاظ
	2- الْكُفْرُونَ (2)		1- سَجْرٌ (2)
	4- الْمُجْرِمِينَ (13) / الْمُجْرِمُونَ (17)		3- غُفْلُونَ (7) غُفْلِينَ (29)
	6- قَاعِدًا (12)		5- قَائِمًا (12)
	8- الْمُنتَظِرِينَ (20)		7- مُسْرِفِينَ (12)
	10- الشَّاكِرِينَ (22)		9- مُخْلِصِينَ (22)
	12- خَالِدُونَ (26)		11- قُدْرُونَ (24)
	14- الْعُلَمَاءَ (37)		13- عَاصِمٌ (27)
	16- الظَّالِمِينَ (39)		15- صَادِقِينَ (38)
	18- مُهْتَدِينَ (45)		17- الْمُفْسِدِينَ (40)
	20- الْمُؤْمِنِينَ (57)		19- مُعْجِزِينَ (53)
	22- الْمُسْلِمِينَ (72)		21- مُبْصِرًا (67)
	24- السَّحْرُونَ (77)		23- مُعْتَدِينَ (74)
	26- عَالٍ (83)		25- مُلْقُونَ (80)
	28- الْمُشْرِكِينَ (105)		27- الْحَسِرِينَ (95)
	30- رَادًّا (107)		29- كَاشِفٌ (107)
	32- الصَّالِحَاتِ (4)		31- الْحَكِيمِينَ (109)
			33- الْمُمْتَرِينَ (94)

اسم مفعول

سوال: اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟

جواب: وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ مثلاً مارا ہوا، کھولا ہوا، مدد کیا ہوا وغیرہ

سوال: اگر ماضی تین حرفی ہو تو اسم مفعول کی گردان کس طرح ہوگی؟

جواب: تین حرفی ماضی کی اسم مفعول کی گردان اس طرح ہوگی:

معنی	چار حرفی	تین حرفی	صیغہ
کام کیا ہوا ایک مرد	مُفْعَلٌ	مَفْعُولٌ	واحد مذکر
کام کیے ہوئے دو مرد	مُفْعَلَانِ / مُفْعَلَيْنِ	مَفْعُولَانِ / مَفْعُولَيْنِ	تثنیہ مذکر
کام کیے ہوئے سب مرد	مُفْعَلُونَ / مُفْعَلِينَ	مَفْعُولُونَ / مَفْعُولِينَ	جمع مذکر
کام کی ہوئی ایک عورت	مُفْعَلَةٌ	مَفْعُولَةٌ	واحد مؤنث
کام کیں ہوئیں دو عورتیں	مُفْعَلَتَانِ / مُفْعَلَتَيْنِ	مَفْعُولَتَانِ / مَفْعُولَتَيْنِ	تثنیہ مؤنث
کام کیں ہوئیں سب عورتیں	مُفْعَلَاتٌ	مَفْعُولَاتٌ	جمع مؤنث

پہچان کا طریقہ:

- تثنیہ والے اسم کے آخر میں ”اِنْ“ اور ”اَيْنَ“ کی آواز پیدا ہوگی۔
- جمع مذکر سالم (عاقِل) کے آخر میں ”اُوْنَ“ اور ”اَيْنَ“ کی آواز پیدا ہوگی۔
- جمع مؤنث سالم (عاقِل) کے آخر میں ”اَتْ“ اور ”اَتِ“ کی آواز پیدا ہوگی۔

• استاذ محترم ان اسم فاعل کی گردان کو ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھائیں۔



(1) واحد مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کی انگلی نیچے کی طرف

(2) تثنیہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں نیچے کی طرف

(3) جمع مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں نیچے کی طرف

(4) واحد مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی نیچے کی طرف

(5) تثنیہ مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں نیچے کی طرف

(6) جمع مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں نیچے کی طرف

● اسم مفعول کی گردان کریں اور معنی بتائیں۔

معنی	الفاظ
	1- الْمُنذِرِينَ (73)

قرآنی مشق

● معنی بتائیں۔ واحد کا جمع۔ جمع کا واحد بتائیں

واحد/جمع	معنی	لفظ
		1- الْكِتَابُ (1)
		2- السَّمَوَاتِ (3)
		3- أَيَّامٍ (3)
		4- مَنَازِلَ (5)
		5- الْأَنْهَارِ (9)
		6- جَنَّاتٍ (9)
		7- الْفُرُوقِ (13)
		8- رُسُلٍ (13)
		9- خُلَافٍ (14)
		10- بَيِّنَاتٍ (15)
		11- شُفَعَاءَ (18)
		12- أُمَّةً (19)
		13- نَبَاتٍ (24)
		14- الْأَبْصَارِ (31)
		15- شُرَكَاءَ (34)
		16- سُورَةٍ (38)

ترجمہ قرآن ورک بُک

{16}

واحد/جمع

واحد/جمع	معنی	لفظ
		17- شَهِيدٌ (46)
		18- الصُّدُورِ (57)
		19- أَوْلِيَاءَ (62)
		20- قُلُوبِ (74)
		21- أَبَاءَ (78)
		22- بُيُوتِ (87)
		23- أَمْوَالًا (88)
		24- سَبِيلِ (89)
		25- الطَّيِّبِ (93)
		26- كَلِمَةً (19) / كَلِمَتٌ (33)
		27- قَرْيَةً (98)
		28- الْآيَاتِ (101)
		29- عِبَادِ (107)

لیول: 2

مرکبات (غیر مفیدہ)

- موصوف، صفت
- مضاف، مضاف الیہ
- ضمیر والے جملے

صفت والے جملے (موصوف، صفت)

• ترجمہ کریں (جو لفظ پہلے ہے اس کا بعد میں جو بعد میں ہے اس کا پہلے ترجمہ کریں)

لفظ	ترجمہ	لفظ	ترجمہ
1- الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2)	حکمت والی کتاب	9- رِيحٍ طَيِّبَةٍ (23)	
2- عَذَابِ الْيَمِّ (4)		10- رِيحٍ عَاصِفٍ (23)	
3- الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (23)		11- صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)	
4- الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (13)		12- الْفَوْزِ الْعَظِيمِ (64)	
5- الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86)		13- الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (79)	
6- الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85)		14- كِتَابٍ مُبِينٍ (61)	
7- يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)		15- سِحْرِ عَلِيمٍ (79)	
8- أُمَّةٍ وَاحِدَةً (19)			

اضافت والے جملے (مضاف، مضاف الیہ)

• ترجمہ کریں (جو لفظ پہلے ہے اس کا بعد میں جو بعد میں ہے اس کا پہلے، درمیان میں کا۔ کی لگائیں)

لفظ	ترجمہ	لفظ	ترجمہ
1- وَعَدَ اللَّهُ (4)	اللہ کا وعدہ	16- عَذَابِ الْخُلْدِ (52)	
2- اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ (6)		17- فَضْلِ اللَّهِ (58)	
3- رَبِّ الْعَالَمِينَ (10)		18- يَوْمِ الْقِيَامَةِ (60)	
4- دُونَ اللَّهِ (18)		19- أَوْلِيَاءِ اللَّهِ (62)	
5- عِنْدَ اللَّهِ (18)		20- كَلِمَتِ اللَّهِ (64)	
6- مَتَاعِ الْحَيَاةِ (23)		21- آيَةِ اللَّهِ (71)	
7- دَارِ السَّلَامِ (25)		22- بِإِذْنِ اللَّهِ (100)	
8- أَصْحَابِ الْجَنَّةِ (26)		23- كُلِّ آيَةٍ (97)	
9- أَصْحَابِ النَّارِ (27)		24- كُلِّ نَفْسٍ (54)	
10- بَعْدَ الْخَلْقِ		25- قَوْمٍ يُؤَسُّسُ (98)	
11- وَتَفْصِيلِ الْكِتَابِ (37)		26- جَنَّتِ النَّعِيمِ (9)	
12- عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39)		27- مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (61)	
13- عَاقِبَةُ الْمُتَنَذِرِينَ (73)		28- عَذَابِ الْحَزِيِّ (98)	
14- قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74)		29- لِقَاءِ اللَّهِ (45)	
15- عَدَدِ السِّنِينَ (5)			

حروفِ جر

سوال: حروفِ جارہ کونسے ہیں؟

جواب: حروفِ جارہ یہ ہیں؟

نمبر شمار	حرف	معنی	مثال	ترجمہ	تعداد
1	ب	ساتھ	بِسْمِ اللّٰهِ	اللہ کے نام کے ساتھ	نا قابل شمار
2	ت	قسم ہے	تَاللّٰهِ	اللہ کی قسم	
3	ک	جیسے	كَمَثَلِ	جیسا کہ مثال ہے	
4	ل	کے لیے	لِلّٰهِ	اللہ کے لیے	نا قابل شمار
5	و	قسم ہے	وَ اللّٰهِ	اللہ کی قسم	
6	مِنْ	سے	مِنَ اللّٰهِ	اللہ کی طرف سے	2503
7	عَنْ	سے	عَنِ الْخَلْقِ	مخلوق سے	490
8	عَلَى	پر، اوپر	عَلَى النَّاسِ	لوگوں پر	1667
9	فِي	میں، اندر	فِي دِيْنِ اللّٰهِ	اللہ کے دین میں	742
10	إِلَى	تک، طرف	إِلَى اللّٰهِ	اللہ کی طرف	1459
11	حَتَّى	یہاں تک کہ	حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ	یہاں تک کہ فجر طلوع ہو	

سوال: ضمیر مجرور متصل با حرف جر کون سی ہیں؟

جواب: ضمیر مجرور متصل با حرف جر یہ ہیں:

بِه	لَه	مِنْه	عَنْه	إِلَيْه	عَلَيْه	فِيه
بِهِمَا	لَهُمَا	مِنْهُمَا	عَنْهُمَا	إِلَيْهِمَا	عَلَيْهِمَا	فِيهِمَا
بِهِمْ	لَهُمْ	مِنْهُمْ	عَنْهُمْ	إِلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ	فِيهِمْ
بِهَا	لَهَا	مِنْهَا	عَنْهَا	إِلَيْهَا	عَلَيْهَا	فِيهَا
بِهِمَا	لَهُمَا	مِنْهُمَا	عَنْهُمَا	إِلَيْهِمَا	عَلَيْهِمَا	فِيهِمَا
بِهِنَّ	لَهُنَّ	مِنْهُنَّ	عَنْهُنَّ	إِلَيْهِنَّ	عَلَيْهِنَّ	فِيهِنَّ
بِكَ	لَكَ	مِنْكَ	عَنْكَ	إِلَيْكَ	عَلَيْكَ	فِيكَ
بِكُمَا	لَكُمَا	مِنْكُمَا	عَنْكُمَا	إِلَيْكُمَا	عَلَيْكُمَا	فِيكُمَا
بِكُمْ	لَكُمْ	مِنْكُمْ	عَنْكُمْ	إِلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	فِيكُمْ
بِكَ	لَكَ	مِنْكَ	عَنْكَ	إِلَيْكَ	عَلَيْكَ	فِيكَ
بِكُمَا	لَكُمَا	مِنْكُمَا	عَنْكُمَا	إِلَيْكُمَا	عَلَيْكُمَا	فِيكُمَا
بِكُنَّ	لَكُنَّ	مِنْكُنَّ	عَنْكُنَّ	إِلَيْكُنَّ	عَلَيْكُنَّ	فِيكُنَّ
بِي	لِي	مِنِّي	عَنِّي	إِلَيَّ	عَلَيَّ	فِيَّ
بِنَا	لَنَا	مِنَّا	عَنَّا	إِلَيْنَا	عَلَيْنَا	فِينَا

قرآنی مشق

- مندرجہ ذیل حروفِ جر کو ضمیروں میں استعمال کریں اور معنی بتائیں

معنی	ضمیریں
	1- مِنْهُ (2)
	2- لَهُ (2)
	3- إِلَيْهِ (4)
	4- بِهِ (7)
	5- عَنْهُ (12)
	6- عَلَيْهِ (71)
	7- فِيهِ (93)

حروفِ مشبہ بالفعل

سوال: حروفِ مشبہ بالفعل کونسے ہیں؟

جواب: حروفِ مشبہ بالفعل یہ ہیں

نمبر شمار	حروف	معنی	تعداد	مثالیں
1	إِنَّ	بے شک/ یقیناً	960	إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ۔ (سورہ یونس: 2)
2	أَنَّ	بے شک/ یقیناً	185	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ (سورہ یونس: 2)
3	كَأَنَّ	گویا/ جیسے	31	كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ۔ (سورہ یونس: 27)
4	لَكِنَّ	لیکن	65	وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ (سورہ حج: 2)
5	لَيْتَ	کاش	14	لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ۔ (سورہ قصص: 79)
6	لَعَلَّ	امید	129	لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ۔ (سورہ شوری: 17)

سوال: ضمیر منصوب متصل کونسی ہیں؟

جواب: ضمیر منصوب متصل یہ ہیں:

اِنَّهٗ	اَنْهٗ	كَاَنْهٗ	لِكِنَّهٗ	لَيْتَهٗ	لَعَلَّهٗ
اِنَّهُمَا	اَنَّهٖمَا	كَاَنَّهٖمَا	لِكِنَّهٖمَا	لَيْتَهُمَا	لَعَلَّهُمَا
اِنَّهُمْ	اَنَّهٖم	كَاَنَّهٖم	لِكِنَّهٖم	لَيْتَهُم	لَعَلَّهُم
اِنَّهَا	اَنَّهَا	كَاَنَّهَا	لِكِنَّهَا	لَيْتَهَا	لَعَلَّهَا
اِنَّهُمَا	اَنَّهٖمَا	كَاَنَّهٖمَا	لِكِنَّهٖمَا	لَيْتَهُمَا	لَعَلَّهُمَا
اِنَّهِنَّ	اَنَّهِنَّ	كَاَنَّهِنَّ	لِكِنَّهِنَّ	لَيْتَهُنَّ	لَعَلَّهُنَّ
اِنَّكَ	اَنَّكَ	كَاَنَّكَ	لِكِنَّكَ	لَيْتَكَ	لَعَلَّكَ
اِنَّكُمَا	اَنَّكُمَا	كَاَنَّكُمَا	لِكِنَّكُمَا	لَيْتَكُمَا	لَعَلَّكُمَا
اِنَّكُمْ	اَنَّكُمْ	كَاَنَّكُمْ	لِكِنَّكُمْ	لَيْتَكُمْ	لَعَلَّكُمْ
اِنَّكَ	اَنَّكَ	كَاَنَّكَ	لِكِنَّكَ	لَيْتَكَ	لَعَلَّكَ
اِنَّكُمَا	اَنَّكُمَا	كَاَنَّكُمَا	لِكِنَّكُمَا	لَيْتَكُمَا	لَعَلَّكُمَا
اِنَّكُنَّ	اَنَّكُنَّ	كَاَنَّكُنَّ	لِكِنَّكُنَّ	لَيْتَكُنَّ	لَعَلَّكُنَّ
اِنِّي	اِنِّي	كَاِنِّي	لِكِنِّي	لَيْتِي	لَعَلِّي
اِنَّا	اِنَّا	كَاِنَّا	لِكِنَّا	لَيْتَنَا	لَعَلَّنَا

قرآنی مشق

• مندرجہ ذیل حروف مشبہ بالفعل کو ضمیروں میں استعمال کریں اور معنی بتائیں

حروف مشبہ بالفعل	معنی
1- اِنَّهٗ (4)	
2- اِنَّهٗ (22)	

ضمیر اسم کے ساتھ

معنی	جمع	معنی	تشبیہ	معنی	واحد	جنس	
ان سب مردوں کا گھر	دَاٰهُم	ان دو مردوں کا گھر	دَاٰهُمَا	اس ایک مرد کا گھر	دَاٰهُ	مذکر	غائب
ان سب عورتوں کا گھر	دَاٰهُنَّ	ان دو عورتوں کا گھر	دَاٰهُمَا	اس ایک عورت کا گھر	دَاٰهَهَا	مؤنث	3rd Person
تم سب مردوں کا گھر	دَاٰكُمْ	تم دو مردوں کا گھر	دَاٰكُمْ	تم ایک مرد کا گھر	دَاٰكَ	مذکر	حاضر
تم سب عورتوں کا گھر	دَاٰكُمْ	تم دو عورتوں کا گھر	دَاٰكُمْ	تم ایک عورت کا گھر	دَاٰكِ	مؤنث	2nd Person
ہمارا گھر	دَاٰنَا	ہمارا گھر	دَاٰنَا	میرا گھر	دَاٰرِي	مذکر	متکلم
ہمارا گھر	//	ہمارا گھر	//	میرا گھر	//	مؤنث	1st Person

● مندرجہ ذیل اسماء کو ضمیروں میں استعمال کریں اور معنی بتائیں

اسماء	معنی	اسماء	معنی
1- رَبِّهِ (2)		18- رُسُلُهُ (13)	
2- اِذْنِهِ (3)		19- بَعْدِهِ (14)	
3- مَرَجِعُهُ (4)		20- نَفْسِهِ (15)	
4- لِقَاءَهُ (7)		21- شَفَعَاؤُهُ (18)	
5- آيَتِهِ (7)		22- بَيْنَهُ (19)	
6- مَاؤُهُ (8)		23- مَعَهُ (20)	
7- اِيْمَانِهِ (9)		24- بَعْضِهِ (23)	
8- تَحْتِهِ (9)		25- اَنْفُسِهِ (23)	
9- دَعْوُهُ (10)		26- زُحْرَفَةُ (24)	
10- تَحِيَّتُهُ (10)		27- اَهْلُهُ (24)	
11- سُبْحٰنُهُ (10)		28- اَمْرُهُ (24)	
12- اسْتِعْجَالُهُ (11)		29- وُجُوْهُهُ (26)	
13- اَجَلُهُ (11)		30- مِثْلُهُ (27)	
14- طُعْيَانِهِ (11)		31- مَكَانَهُ (28)	
15- جَنِيْبِهِ (12)		32- شَرَّ كَاؤُهُ (28)	
16- ضَرَرُهُ (12)		33- عِبَادَتُهُ (29)	
17- قَبْلَهُ (13)		34- مَوْلَاهُ (30)	

اسماء	معنی	اسماء	معنی
35- اَكْثَرُه (36)		50- كَلِمَتِه (82)	
36- يَدَيْهِ (37)		51- اَخِيهِ (87)	
37- عِلْمِه (39)		52- بِيُوتِه (87)	
38- تَأْوِيلُه (39)		53- سَيِّلِه (88)	
39- عَمَلُه (41)		54- اَمْوَالِه (88)	
40- عَدَابُه (50)		55- قُلُوبِه (88)	
41- رَحْمَتِه (58)		56- جُنُودُه (90)	
42- قَوْلُه (65)		57- بَدَنِه (92)	
43- عِنْدِه (68)		58- خَلْفِه (92)	
44- قَوْمِه (71)		59- كُلُّه (99)	
45- مَقَامِه (71)		60- دِينِه (104)	
46- تَذَكُّيرِه (71)		61- وَجْهِه (105)	
47- اَجْرِي (72)		62- فَضْلِه (107)	
48- مَلَاِه (75)		63- عِبَادِه (107)	
49- اَبَاءُه (78)			

● ضمیر لفظ ”ایا“ کے ساتھ

معنی	جمع	معنی	ثنیہ	معنی	واحد	جنس	
خاص ان سب مردوں کو	إِيَّاهُمْ	خاص ان دو مردوں کو	إِيَّاهُمَا	خاص اس ایک مرد کو	إِيَّاهُ	مذکر	غائب
خاص ان سب عورتوں کو	إِيَّاهُنَّ	خاص ان دو عورتوں کو	إِيَّاهُمَا	خاص اس ایک عورت کو	إِيَّاهَا	مؤنث	3rd Person
خاص تم سب مردوں کو	إِيَّاكُمْ	خاص تم دو مردوں کو	إِيَّاكُمَا	خاص تم ایک مرد کو	إِيَّاكَ	مذکر	حاضر
خاص تم سب عورتوں کو	إِيَّاكنَّ	خاص تم دو عورتوں کو	إِيَّاكُمَا	خاص تم ایک عورت کو	إِيَّاكِ	مؤنث	2nd Person
خاص ہم سب مردوں کو	إِيَّانَا	خاص ہم دو مردوں کو	إِيَّانَا	خاص میں ایک مرد کو	إِيَّايَ	مذکر	متکلم
خاص ہم سب عورتوں کو	إِيَّانَا	خاص ہم دو عورتوں کو	إِيَّانَا	خاص میں ایک عورت کو	إِيَّايَ	مؤنث	1st Person

لیول: 3

مرکبات (مفیدہ)

- ضمیر والے جملے
- اسم اشارہ والے جملے
- اسم موصول والے جملے
- شرطیہ جملے
- سوالیہ جملے
- تاکید جملے
- منفی جملے


ضمیر مرفوع منفصل

معنی	جمع	معنی	مثنیہ	معنی	واحد	جنس	
وہ سب مرد	هُم	وہ دو مرد	هُمَا	وہ ایک مرد	هُوَ	مذکر	غائب
وہ سب عورتیں	هُنَّ	وہ دو عورتیں	هُمَا	وہ ایک عورت	هِيَ	مؤنث	3rd Person
تم سب مرد	أَنْتُمْ	تم دو مرد	أَنْتُمَا	تم ایک مرد	أَنْتَ	مذکر	حاضر
تم سب عورتیں	أَنْتُنَّ	تو دو عورتیں	أَنْتُمَا	تم ایک عورت	أَنْتِ	مؤنث	2nd Person
ہم سب مرد	نَحْنُ	ہم دو مرد	نَحْنُ	میں ایک مرد	أَنَا	مذکر	متکلم
ہم سب عورتیں	نَحْنُ	ہم دو عورتیں	نَحْنُ	میں ایک عورت	أَنَا	مؤنث	1st Person

• استاد محترم ان ضمیروں کا اشاروں کے ذریعے سے پڑھائیں



(1) واحد مذکر غائب کے لیے دائیں ہاتھ سے داہنی طرف



(2) مثنیہ مذکر غائب کے لیے دو انگلیوں سے داہنی طرف

(3) جمع مذکر غائب کے لیے تین انگلیوں سے داہنی طرف



(4) واحد مؤنث غائب کے لیے بائیں ہاتھ سے بائیں طرف



(5) مثنیہ مؤنث غائب کے لیے دو انگلیوں سے بائیں طرف

(6) جمع مؤنث غائب کے لیے تین انگلیوں سے بائیں طرف



(13) واحد متکلم (مذکر مؤنث دونوں کے لیے) سینہ کی طرف

(14) جمع متکلم (مذکر مؤنث دونوں کے لیے) سینہ کی طرف

ضمیر والے جملے

● ہو ضمیر سے گردان پڑھیں اور مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں

آیات	معنی
1- هُمْ عَنْ آيْتِنَا غٰفِلُونَ (7)	
2- أَنْتُمْ بَرِيءُونَ (41)	
3- أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)	
4- هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54-47)	
5- هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ (56)	
6- هُوَ خَيْرٌ (58)	
7- هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65)	
8- هُوَ الْغَنِيُّ (68)	
9- أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90)	
10- هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ (107)	
11- هُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ (109)	

● ضمیر متصل فعل کے ساتھ

معنی	جمع	معنی	تشبیہ	معنی	واحد	جنس	
مارا ان سب مردوں کو	ضَرَبَهُمْ	مارا ان دو مردوں کو	ضَرَبَهُمَا	مارا اس ایک مرد کو	ضَرَبَهُ	مذکر	غائب
مارا ان سب عورتوں کو	ضَرَبَهُنَّ	مارا ان دو عورتوں کو	ضَرَبَهُمَا	مارا اس ایک عورت کو	ضَرَبَهَا	مؤنث	3rd Person
مارا تم سب مردوں کو	ضَرَبَكُمْ	مارا تم دو مردوں کو	ضَرَبَكُمَا	مارا تم ایک مرد کو	ضَرَبَكَ	مذکر	حاضر
مارا تم سب عورتوں کو	ضَرَبَكُنَّ	مارا تم دو عورتوں کو	ضَرَبَكُمَا	مارا تم ایک عورت کو	ضَرَبَكِ	مؤنث	2nd Person
مارا ہم سب مردوں کو	ضَرَبْنَا	مارا ہم دو مردوں کو	ضَرَبْنَا	مارا مجھ ایک مرد کو	ضَرَبَنِي	مذکر	متکلم
مارا ہم سب عورتوں کو	//	مارا ہم دو عورتوں کو	//	مارا مجھ ایک عورت کو	//	مؤنث	1st Person

اسمائے اشارات

سوال: قریب اور دور کے لیے کون سے اسمائے اشارہ ہیں؟

جواب: قریب اور دور کے لیے استعمال ہونے والے اسمائے اشارہ یہ ہیں:

تعداد	معنی	لفظ	جنس	قریب کے چھ اسمائے اشارہ
214	یہ ایک مذکر	هَذَا	مذکر	
2	یہ دو مذکر	هَذَانِ / هَذَيْنِ		
44	یہ سب مذکر	هَؤُلَاءِ		
47	یہ ایک مؤنث	هَذِهِ	مؤنث	
1	یہ دو مؤنث	هَاتَانِ / هَاتَيْنِ		
2	یہ سب مؤنث	هَؤُلَاءِ		

تعداد	معنی	لفظ	جنس	دور کے چھ اسمائے اشارہ
463	وہ ایک مذکر	ذَلِكَ	مذکر	
1	وہ دو مذکر	ذَانِكَ		
201	وہ سب مذکر	أُولَئِكَ		
43	وہ ایک مؤنث	تِلْكَ	مؤنث	
---	وہ دو مؤنث	تَانِكَ		
---	وہ سب مؤنث	أُولَئِكَ		

خوشخبری: یہ الفاظ قرآن کریم میں 1018 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔

• مندرجہ ذیل قریب کے چھ اسمائے اشارہ کی مثالوں میں غور کیجیے،

الفاظ	معانی	تعداد	آیت	ترجمہ
هَذَا	یہ ایک مرد	214	هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ - (سورہ بقرہ: 25)	یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی دی گئی تھی
هَذَانِ	یہ دو مرد	2	هَذَانِ خُضْمَانٍ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ - (سورہ حج: 19)	یہ دو فریق ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں
هَؤُلَاءِ	یہ سب مرد	44	هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ - (سورہ ہود: 18)	یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے پروردگار پر
هَذِهِ	یہ ایک عورت	47	أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ - (سورہ بقرہ: 58)	داخل ہو جائے اس بستی میں
هَاتَانِ	یہ دو عورتیں	1	إِخْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ - (سورہ قصص: 27)	میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک
هَؤُلَاءِ	یہ سب عورتیں	2	هَؤُلَاءِ - (سورہ حجر: 71)	یہ میری بیٹیاں ہیں

• مندرجہ ذیل دور کے چھ اسمائے اشارہ کی مثالوں میں غور کیجیے،

الفاظ	معانی	تعداد	آیت	ترجمہ
ذَلِك	وہ ایک مرد	463	ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ (سورہ النساء: 70)	وہ خاص مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
ذَانِك	وہ دو مرد	1	فَذَانِك بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ۔ (سورہ قصص: 32)	پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے
أُولَئِكَ	وہ سب مرد	201	أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ (سورہ بلد: 18)	یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں
تِلْكَ	وہ ایک عورت	43	تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ۔ (سورہ شعراء: 22)	یہی وہ نعمت ہے جس کا تو احسان جتا تا ہے مجھ پر
تَانِك	وہ دو عورتیں	---	تَانِك نِعْمَتَانِ تَمُنُّهُمَا عَلَيَّ۔	یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تو احسان جتا تا ہے مجھ پر
أُولَئِكَ	وہ سب عورتیں	---	أُولَئِكَ نِعْمٌ تَمُنُّهُنَّ عَلَيَّ۔	یہی وہ ساری نعمتیں ہیں جن کا تو احسان جتا تا ہے مجھ پر

قرآنی مشق

- مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور یہ بتائیں باعتبار مذکر، مؤنث/قرب، بعید/واحد، ثنئیہ، جمع

واحد، ثنئیہ، جمع کونسا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے

آیات	ترجمہ	مذکر، مؤنث	قرب، بعید	واحد، ثنئیہ، جمع
1- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1)				
2- هَذَا السَّحْرُ مُبِينٌ (2)				
3- ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ (3)				
4- أُولَئِكَ مَاوَاهُمْ النَّارُ (8)				
5- هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (18)				
6- وَلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (26)				
7- أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ (27)				
8- فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (32)				
9- هَذَا الْقُرْآنُ (37)				
10- هَذَا الْوَعْدُ (48)				
11- ذَلِكَ (هُوَ) الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)				

اسماء موصولات (جو، جن)

سوال: اسمائے موصولہ کونسے ہیں؟

جواب: اسمائے موصولہ یہ ہیں:

تعداد	معنی	لفظ	جنس
304	وہ ایک شخص جس نے	الَّذِي	مذکر
1	وہ دو شخص جنہوں نے	الَّذَانِ / الَّذِينَ	
1080	وہ سب لوگ جنہوں نے	الَّذِينَ	
68	وہ ایک عورت جس نے	الَّتِي	مؤنث
---	وہ دو عورتیں جنہوں نے	الَّتَانِ / الَّتَيْنِ	
10.4	وہ سب عورتیں جنہوں نے	الَّاتِيَّ - اللَّاتِيَّ	
	جس نے / جس کو	مَنْ (عائل)	
	جو / جس نے / جس کو	مَا (غیر عائل)	

خوشخبری: یہ الفاظ قرآن کریم میں 1467 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔

• مندرجہ ذیل اسمائے موصولہ کی مثالوں میں غور کیجیے،

الفاظ	معانی	تعداد	آیت	ترجمہ
الَّذِي	وہ ایک شخص جس نے	304	الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ- (سورہ بقرہ: 23)	جس نے بنایا تمہارے لیے
الَّذِينَ	وہ دو شخص جنہوں نے	1	أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا- (سورہ فصلت: 29)	دکھا ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا
الَّذِينَ	وہ سب لوگ جنہوں نے	1080	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ- (سورہ بقرہ: 3)	وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں
الَّتِي	وہ ایک عورت جس نے	68	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا- (سورہ فجر: 8)	وہ جس کا مثل پیدا نہیں کیا گیا
الَّتِي	وہ سب عورتیں جنہوں نے	10	الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ- (سورہ یوسف: 50)	وہ جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ
الَّتِي	وہ سب عورتیں جنہوں نے	4	وَالَّتِي يُتَسَّنَّ- (سورہ طلاق: 4)	وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں

قرآنی مشق

- مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور یہ بتائیں باعتبار مذکر، مؤنث/ واحد، تثنیہ، جمع اس میں کونسا اسم موصول استعمال ہوا ہے

آیات	ترجمہ	مذکر/ مؤنث	واحد/ تثنیہ/ جمع
1- الَّذِينَ آمَنُوا (2)			
2- الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (3)			
3- الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (4-9)			
4- الَّذِينَ كَفَرُوا (4)			
5- الَّذِينَ أَشْرَكُوا (28)			
6- الَّذِينَ ظَلَمُوا (52)			
7- الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ صَبَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا (5)			
8- الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (26)			
9- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ (27)			

آیات	ترجمہ	مذکر/ مؤنث	واحد/ تثنیہ/ جمع
10- نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا (28)			
11- الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (39)			
12- الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ (45)			
13- قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا (52)			
14- الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ (66)			
15- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ (67)			
16- الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَيَّ اللَّهُ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ (69)			
17- الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (73)			
18- الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ (95)			
19- الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89)			
20- الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (104)			

آیات	ترجمہ	مذکر/ مؤنث	واحد/ متثنیہ/ جمع
21- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ (مِنْ + مَنْ) (17)			
22- اِنَّ فِيْ اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَّقُونَ (6)			
23- زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12)			
24- اِنَّ اَتَّبِعِ الْاِمَا يُوحَى الْحَى (15)			
25- وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ (18)			
26- اَتَتَّبِعُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)			
27- اِنَّ زُسلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21)			
28- فَنَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23)			

آیات	ترجمہ	مذکر/ مؤنث	واحد/ متثنیہ/ جمع
29- فَاحْتَلَطْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا (مِنْ + مِنْ) يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ (24)			
30- يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (25)			
31- تَبَلُّوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتُرُوْنَ (30)			
32- هَلْ مِنْ شَرِّ كَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ (34)			
33- هَلْ مِنْ شَرِّ كَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ (35)			
34- أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى (35)			
35- بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (39)			
36- وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ (40)			

آیات	ترجمه	مذکر/ مؤنث	واحد/ متثنیہ/ جمع
37- أَنْتُمْ بَرِيءُونَ وَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41)			
38- وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ (42)			
39- وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ (43)			
40- أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ (51)			
41- هَلْ تُجْزَوْنَ الْإِيمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52)			
42- وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ (54)			
43- أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (55)			
44- شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ (57)			
45- قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ (59)			

آیات	ترجمہ	مذکر/ مؤنث	واحد/ متثنیہ/ جمع
46- وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (60)			
47- أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (66)			
48- لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (68)			
49- فَتَجْنِبُهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ (73)			
50- أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا عَنَّا (عَنْ + مَا) وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا (78)			
51- أَلْفُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80)			
52- قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ (81)			
53- لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً (92)			

آیات	ترجمه	مذکر/ مؤنث	واحد/ متثنیہ/ جمع
54- اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93)			
55- فَاِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ (94)			
56- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ (106)			
57- يُصِيبُ بِه مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (107)			
58- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ اِلَيْكَ (109)			

شرطیہ جملے (اگر یوں کرو گے تو یوں ہوگا)

سوال: شرط کا معنی بیان کرنے کے لیے قرآن میں کونسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: شرط کے معنی بتانے کے لیے کچھ اسماء استعمال ہوتے ہیں اور حروف۔

اسماء یہ ہیں جیسے مَنْ (جو شخص)، مَا (جو چیز)، مَهْمَا، حَيْثُ / كَيْفَمَا (جہاں)، اَيْنَمَا / اَيْنَ،

أَيُّ، أَنَّى (جہاں)، مَتْنِي، إِذَا (جب)، أَيَّانَ (کب)،

حُرُوفٌ یہ ہیں اِنْ، لَوْ / لَوْلَا، إِذَا، إِذَا مَا، إِذَا مَا

• مندرجہ ذیل آیات میں شرط اور جزاء (یعنی شرط کا جواب) متعین کریں

آیات	شرط / جزاء	ترجمہ
1- لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ (11)		
2- وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَةٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا (12)		
3- وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْهَانَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ (15)		
4- لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ (16)		
5- وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ (19)		

ترجمہ	شرط/جزاء	آیات
		6- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَّهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا (21)
		7- إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَيبَةٍ وَقَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ (22)
		8- لَئِن لَّا نَجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22)
		9- فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38)
		10- وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ (41)
		11- (إِنْ + مَا) إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ (46)
		12- إِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (47)
		13- إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49)
		14- مَثَى هَذَا الْوَعْدَانِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48)

ترجمہ	شرط/جزاء	آیات
		15- إِنْ أَنْتُمْ عَدَاِبَهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا أَمَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50)
		16- أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ (51)
		16- إِنْ كَانَ كَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ (71)
		17- إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ (72)
		18- إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84)
		19- لَوْ شَاءَ رَبِّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا (99)
		20- إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (104)
		21- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (107)
		22- إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (107)
		23- فَمَنْ (ف + مَنْ) اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ (108)
		24- وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا (108)

سوالیہ جملے (استفہامیہ)

سوال: سوال اور کوئی بات پوچھنے کے لیے کونسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں

جواب: سوال اور کوئی بات پوچھنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں

وہ حروف یہ ہیں مَا (کیا، کس چیز نے)، مَاذَا، مَا هَذَا، مَا هَذِهِ، أَهَلْ (کیا)، مَنْ (کون)،

كَمْ (کتنا)، كَيْفَ (کیسے)، أَيْنَ (کہاں)، مَتَى (کب)، لِمَ (کیوں)، أَنَّى (کہاں، کہاں سے)

• مندرجہ ذیل آیات میں سوالیہ حرف (حرف استفہام) متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	حرف استفہام	ترجمہ
1- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ (2)		
2- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (17)		
3- قُلْ أَنتَبِسُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)		
4- قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (31)		
4- أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ (31)		
4- وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (31)		

آیات	حرف استفہام	ترجمہ
4- وَمَنْ يُدْبِرِ الْأَمْرَ (31)		
5- فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ (32)		
6- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفِكُونَ (34)		
7- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ (35)		
8- أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى (35)		
9- فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35)		
10- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ هٗ. قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (38)		
11- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48)		
12- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50)		
13- أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ امْنْتُمْ بِهِ السِّنِّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51)		
14- وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ (53)		

آیات	حرف استفہام	ترجمہ
15- قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدِينُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59)		
16- اتَّقُوا لَوْلَىٰ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68)		
17- قَالَ مُوسَىٰ اتَّقُوا لَوْلَىٰ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ مَا سَحَرَ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ (77)		
18- قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ (78)		
19- الثَّنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)		

تاکیدی جملے

- 1- تاکید بذریعہ حروف اِنَّ، اَنَّ (حروف مشبہ بالفعل)، لَ، قَدْ، کُلَّ - اَجْمَع
- 2- تاکید بذریعہ نون ثقیلہ (نَّ) نون خفیفہ (نْ)
- 3- تاکید بذریعہ حروف تنبیہ (اَلَا، هَا)
- 4- تاکید بذریعہ حروف تخصیض (اَلَا، هَلَّا، لَوْلَا، لَوْ مَا)
- 5- تاکید بذریعہ استثناء (اِلَّا)

- 1- تاکید بذریعہ حروف اِنَّ، اَنَّ (بے شک)، لَ (یقیناً/البتہ)، قَدْ (یقیناً) - کُلَّ - اَجْمَع (سب)
- مندرجہ ذیل آیات میں تاکیدی حروف متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	حروف تاکید	ترجمہ
1- اِنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (2)		
2- اِنَّ هَذَا السَّحَرُ مَبِينٌ (2)		
3- اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ (3)		
4- اِنَّهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ (4)		
5- اِنَّ فِيْ اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ (6)		
6- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (7)		

آیات	حروف تاکید	ترجمہ
7- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ (9)		
8- لَقَضِيْ اَلَيْهِمْ اٰجَلُهُمْ (11)		
9- وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا (13)		
10- اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (15)		
11- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (16)		
12- اِنَّهٗ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ (17)		
13- اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَضِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (20)		
14- اِنْ رُسُلَنَا يَكْتُوبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ (21)		
15- وَ طَنُوْا اَنَّهُمْ اٰحِيطَ بِهٖمْ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ (22)		
16- اِنَّمَا بَغْيِكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ (23)		
17- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ (24)		
18- ظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قَدِرُوْنَ عَلَيْهَا (24)		

آیات	حروف تاکید	ترجمہ
19- أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33)		
20- فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفَلِينَ (29)		
21- إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)		
22- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (44)		
23- فَذُحَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ (45)		
24- إِنَّهُ لَحَقُّ (53)		
25- وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأُفْتَدَتْ بِهِ (54)		
26- إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ (60)		
27- إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (65)		
28- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67)		
29- إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69)		
30- إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (76)		
31- مَا جِئْتُمْ بِهِ لَ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)		

آیات	حروف تاکید	ترجمہ
32- اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (83)		
33- قَالَ قَدْ اٰجَبْتِ دَعْوَتِكُمْ ا فَاسْتَقِيْمَا (89)		
34- قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ (91)		
35- اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ (92)		
36- لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَّ اِسْرٰٓءِيْلَ مَبُوْآ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ (93)		
37- لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكَ (94)		
38- اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (96)		
39- وَاَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا (99)		
40- فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِيْنَ (102)		
41- قَدْ جَآءَكُمْ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكُمْ (108)		

2- تاکیدی بذریعہ نون ثقیلہ (نّ) نون خفیفہ (ن) (ضرور)

• مندرجہ ذیل آیات میں حروف تاکیدی متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	حروف تاکیدی	ترجمہ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22)		
وَأَمَّا نُورُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَقَّئِكَ فَإِلَيْنَا مَرَّ جَعَلَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46)		
وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89)		
1- فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94)		
2- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95)		
3- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105)		

3- تاکیدی بذریعہ حروف تشبیہ۔ اَلَا هَلْ خَبِرْتُمُ الْآگَاهُ هُوَ جَاؤُا / سَنُو)

• مندرجہ ذیل آیات میں حروف تشبیہ متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	حروف تشبیہ	ترجمہ
1- اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (55)		
2- اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ (55)		
3- اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (62)		
4- اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ (66)		

4- تاکیدی بذر یحرف تحفیف آلا، هالا، لوما (کیون نہیں)، لولا (اگر نہ ہوتا)

• مندرجہ ذیل آیات میں حروف تحفیف متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	حروف تحفیف	ترجمہ
1- لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19)		
2- لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ (20)		
3- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِيمَانُهَا آلَا قَوْمِ بُونَس (98)		

5- تاکیدی بذریعہ استثناء الّا (مگر، سوائے)

• مندرجہ ذیل آیات میں حروف استثناء متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	حروف استثناء	ترجمہ
1- مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أذْنِهِ (3)		
2- مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ (5)		
3- إِنْ أَتَيْتَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْ (15)		
4- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (19)		
5- فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ (32)		
6- أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ (35)		
7- وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا (36)		
8- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَمَا نَزَلْنَا الْأَلْهَامَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ (45)		
9- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (49)		
10- هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52)		
11- وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ (61)		

آیات	حروف استثناء	ترجمہ
12- وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61)		
13- إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66)		
14- إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (72)		
15- فَمَا أَمَّنْ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ (83)		
16- قَالَ أَمُنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90)		
17- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمَنْتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ (98)		
18- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (100)		
19- فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ (102)		
20- وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (107)		

منفی جملے

سوال: منفی جملے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں

جواب: منفی جملے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں

وہ حروف یہ ہیں ما، لا، لم، لیس، ان، غیبر (نہیں)، لن (ہرگز نہیں)

• مندرجہ ذیل آیات میں منفی حروف متعین کریں اور ترجمہ کریں

آیات	منفی حروف	ترجمہ
1- مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذْنِهِ (3)		
2- أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3)		
3- مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ (5)		
4- إِنْ الَّذِينَ لَا يَزُجُونَ لِقَاءَنَا (7)		
5- فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَزُجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11)		
6- كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرْبٍ مَسَّهُ (12)		
7- مَا كَانُوا الْيَوْمَ مُنْوَا (13)		
8- قَالَ الَّذِينَ لَا يَزُجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِفِرْأَنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فُلٌ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدَّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتِ إِلَّا مَا يُؤْلَحِي (15)		


ترجمہ	منفی حروف	آیات
		9- قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىٰكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16)
		10- إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17)
		11- وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (18)
		12- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (19)
		13- فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ (24)
		14- وَلَا يَزَهُقَ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ (26)
		15- مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ (27)
		16- وَقَالَ شَرُّ كَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28)
		17- أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33)
		18- أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى (35)
		19- وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا طَنًّا (36)

آیات	منفی حروف	ترجمہ
20- إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (36)		
21- وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37)		
22- بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ (39)		
23- وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ (40)		
24- أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42)		
24- أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43)		
25- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (44)		
26- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ (45)		
27- وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45)		
28- وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47)		
29- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49)		

سوال: باعتبار صفات جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب: باعتبار صفات جملہ کی چھ قسمیں ہیں:

نمبر شمار	قسمیں	وضاحت	مثال	ترجمہ
1	مُيِّنَةٌ	جو پہلے جملہ کو کھول کر بیان کر دے	أَلْكَوْمَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْسَامٍ، اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ	کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم، فعل، حرف
2	مُعَلِّمَةٌ	جو پہلے جملہ کی علت بیان کر دے	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً (92)	لہذا آج ہم تیرے (صرف) جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔
3	مُعْرِضَةٌ	جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِنَا لَغٰفِلُونَ (92)	کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔
4	مُتَّافِقَةٌ	وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے	فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ الْآيَاتِ الْآتِيَاتِ مِّنْ قَبْلِهِمْ (102)	بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ (ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھے تھے؟
5	حَالِيَةٌ	وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو	الْتَّنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)	اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔
6	مُعْطَفَةٌ	وہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے	وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ (106)	اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے (من گھڑت معبود) کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان۔



قرآنی مصادر

حروفِ اصلیہ اور زائدہ

- حروف کی قسمیں
- پہچاننے کے طریقے
- تعریف
- وزن معلوم کرنے کا طریقہ

□ حروف کی قسمیں

سوال: (1) حروف کی کتنی قسمیں ہیں

جواب: حروف کی مختلف قسمیں ہیں جس میں ایک تقسیم حروفِ اصلی اور حروفِ زائدہ بھی ہیں

□ تعریف

سوال: (2) حروفِ اصلیہ کسے کہتے ہیں

جواب: 1- جو باب کی تمام گردانوں میں پائے جائیں اور 2- وزن کرتے ہوئے ف-ع-ل کے مقابلہ میں آجائیں اور اگر ان حروف میں سے کسی ایک حرف کو بھی ہٹا دیا جائے تو اصل میں معنی میں تبدیلی آجائے جیسے نَصْرًا، نَصْرًا، نَصْرًا۔ یَنْصُرُ، يَنْصُرَانِ، نَنْصُرُونَ میں ن-ص-ر حروفِ اصلی ہیں الف-واؤ-ياء زائدہ ہیں کیونکہ 1- ن-ص-ر پوری گردان میں پائے جا رہے ہیں 2- اور وزن کرتے ہوئے ف-ع-ل کے مقابلہ میں بھی آ رہے ہیں نَصْرًا کا وزن ہے فَعْلان 3- اور اگر ن-ص-ر میں سے ن کو ہٹا دیں تو نَصْرًا کا جو معنی تھا مدد دہ ص-ر سے حاصل نہیں ہوگا

سوال: (3) حروفِ زائدہ کسے کہتے ہیں

جواب: جو باب کی تمام گردان میں نہ پائے جائے اور وزن کرتے ہوئے ف-ع-ل کے مقابلہ میں نہ آئیں اور اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اصلی معنی میں تبدیلی نہ

آئے جیسے نَصْرًا، نَصْرُوا، نَصْرَتْ۔ يَنْصُرُ، يَنْصُرَانِ، نَنْصُرُونَ اس میں الف۔ و
ت۔ ی۔ زائدہ ہیں کیونکہ یہ حروف 1- تو تمام گردانوں میں نہیں 2- یہ کہ
ف۔ ع۔ لکے مقابلہ میں نہیں نَصْرًا، فَعَلًا۔ نَصْرُوا، فَعَلُوا۔ نَصْرَتْ، فَعَلَتْ 3- انکو
ہٹانے سے اصلی معنی میں تبدیلی بھی نہ آرہی ہے نَصْرًا ان دو مردوں نے مدد کی۔ نَصْرًا ان
سب مردوں نے مدد کی۔ اب اگر نَصْرًا سے الف گرا دیں اور نَصْرًا سے واؤ گرا دیں تو نَصْرًا کا
جو اصلی معنی تھا مدد کرنا اس میں کوئی فرق نہیں آئیگا

□ حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے کا طریقہ

سوال: (4) کسی کلمہ کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے
جواب: حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے درمیان فرق کرنے کے لئے ایک
ترازو بنایا ہے جو ف۔ ع۔ ل ہے جسکا مجموعہ فَعَل ہے کسی بھی لفظ کو اس ترازو میں تولنے کے
بعد یعنی ہم وزن کرنے کے بعد جو حرف ف۔ ع۔ ل کے مقابلہ میں آئے وہ حروف اصلیہ
ہوں گے جو ف۔ ع۔ ل کے مقابلہ میں نہ آئیں وہ حروف زائدہ ہوں گے جیسے ضَرَب ہم
وزن فَعَل (آسمیں ض۔ ر۔ ب تینوں حرف اصلی ہیں کوئی حرف زائدہ نہیں) اکْرَم ہم وزن
أَفْعَل (آسمیں ہمزہ زائدہ ہے)

سوال: (5) حروف زائدہ کتنے ہیں

جواب: حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سَأَلْتُمُو نِيهَا يَا أَيُّوم تَنْسَاهُ ہے
لیکن یہ حروف زائدہ اس وقت ہوں گے جب ف۔ ع۔ ل کے مقابلے میں نہ ہوں جیسے
يَضْرِب ہم وزن يَفْعَل میں ی زائدہ ہے لیکن نَصْرًا ہم وزن فَعَل میں ن زائدہ نہیں۔
نیز یہ 10 حروف زائدہ اس وقت میں جب زائدہ حرف غیر مکرر ہو اگر زائدہ حرف مکرر ہو تو وہ
29 حروف تہجی میں سے (الف کے علاوہ) کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے ان 10 میں سے ہونا ضروری
نہیں جیسے صَرَف میں دوسری را اور اخشوشن میں دوسرا شین، جلبب میں دوسری باء زائدہ ہے

□ وزن معلوم کرنے کا طریقہ

- (1) جب کلمہ ثلاثی ہو تو میزان میں حروفِ اصلیہ کے مقابلے میں فاء، عین اور ایک لام لائیں گے، جیسے نَصْرَ بَرُوزِنَ فَعْلَ، فَلَسَ بَرُوزِنَ فَعْلَ
- (2) جب کلمہ رباعی ہو تو میزان میں حروفِ اصلیہ کے مقابلے میں فاء، عین اور دو لام لائیں گے، جیسے دَخْرَجَ بَرُوزِنَ فَعْلَلَّ، جَعْفَرَ بَرُوزِنَ فَعْلَلَّ
- (3) جب کلمہ خماسی ہو تو میزان میں حروفِ اصلیہ کے مقابلے میں فاء، عین اور تین لام لائیں گے، جیسے سَفَرَ جَلَّ بَرُوزِنَ فَعْلَلَّ (یہ اصل میں فَعْلَلَّ تھا)
- (4) اگر کلمہ میں کوئی حرف زائد اپنے ماقبل جیسا ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں حروفِ اصلی کو دوبارہ لائیں گے، جیسے صَرَفَ بَرُوزِنَ فَعْلَ، اِحْمَرَ بَرُوزِنَ اِفْعَلَ
- (5) اگر کلمہ میں کوئی حرف زائد اپنے ماقبل جیسا نہ ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں وہی حرف لائیں گے، جیسے کَوَيْمَ بَرُوزِنَ فَعِيلَ
- (6) جب کسی کلمہ میں اعلال، ابدال یا تخفیف ہو تو میزانِ اصل کے مطابق لائیں گے، جیسے اصْطَبَرَ بَرُوزِنَ اِفْتَعَلَ، قَالَ بَرُوزِنَ فَعْلَ، يَقُولُ بَرُوزِنَ يَفْعَلُ، اَمِنَ بَرُوزِنَ اَفْعَلَ
- (7) جب کسی کلمہ سے کوئی حرف لفظاً و کتابتاً حذف ہو تو میزان سے اس کے مقابلے میں حرف کو حذف کریں گے، جیسے عِدَّةٌ بَرُوزِنَ عَلْتَةٌ، قُلْنَ بَرُوزِنَ فُلْنَ، يَرْمُونَ بَرُوزِنَ يَفْعُونَ
- (8) جب کسی کلمے کے حروفِ اصلیہ میں قلب مکانی (تقدیم و تاخیر) ہو تو میزان میں قلب مکانی ہوگی، جیسے اَيْسَبِرُوزِنَ عَفِلَ (جو اصل میں يَيْسَسُ بَرُوزِنَ فَعِلَ تھا)

باب: نَصْرَ یَنْصُرُ

سالم	الکُفْرُ (4) (انکار کرنا)	الْخَلْقُ (3) (پیدا کرنا)	العِبَادَةُ (3) (عبادت کرنا)	التَّظَنُّ (14) (دیکھنا)	الْكِتَابَةُ (21) (لکھنا)
	السُّكُونُ (67) (ٹھہرنا)	الْمَكْرُ (21) (تدبیر کرنا)	الْحَشْرُ (28) (جمع کرنا)	الرِّزْقُ (31) (روزی دینا)	الْفُسُوقُ (33) (فرمان ہونا)
	الْحُكْمُ (35) (فیصلہ کرنا)	الْعَزُوبُ (61) (غائب ہونا)	الشُّكْرُ (60) (شکریا داکرنا)	الْحَزْنُ (62) (غمگین ہونا)	الْخِرَاصُ (66) (جھوٹ بولنا)
مضاعف	الْمُزُورُ (12) (گڈرنا)	الضَّرُّ (12) (نقصان دینا)	الظَّنُّ (22) (گمان کرنا)	الرَّدُّ (30) (لوٹانا)	الشَّدُّ (88) (مضبوط کرنا)
مہموز القاء	الْأَكْلُ (24) (کھانا)	الْأَخْذُ (24) (لینا)	الْأَمْرُ (72) (حکم دینا)		
اجوف داوی	الْكُونُ (2) (ہونا)	الْقِيَامُ (84) (کھڑا ہونا)	الْقَوْلُ (2) (کہنا)	الدَّوْقُ (52) (چکھنا)	
ناقص داوی	الرَّجَاءُ (7) (امید رکھنا)	الدَّعْوَةُ (12) (بلانا)	التَّلَاوَةُ (15) (پڑھنا)	الْبَلَاءَةُ (30) (آزمانا)	الْخَلْوُ (102) (خالی ہونا)

باب: ضَرَبَ یَضْرِبُ

سالم	الکشف (12)	العقل (42)	الظلم (13)	الملک (31)	الطمس (88)
	(کھولنا)	(سمجھنا)	(ظلم کرنا)	(مالک ہونا)	(مٹانا)
	الکسب (8)	الزجع (56)	الفتن (83)	السبق (19)	الصبر (109)
	(کمانا)	(لوٹنا)	(آزمانا)	(آگے بڑھنا)	(صبر کرنا)
مضعف	الصّل (30)	الحق (33)	(ثابت ہونا)		
	(گمراہ ہونا)				
مہوز الفاء	الإفک (34)	(جھوٹ بولنا)			
مثال واوی	الوعد (وعدہ کرنا)	الوعظ (نصیحت کرنا)	الوجد (پانا)		
ناقص یائی	القضاء (71)	الجزاء (4)	العصیان (15)	البعی (23)	الهدایة (9)
	(فیصلہ کرنا)	(بدل دینا)	(نافرمانا)	(ڈھونڈنا)	(ہدایت پانا)
	الجرى (9)	الکفایة (29) (کافی ہونا)			
	(جاری ہونا)				

باب: فَتَحَ یَفْتَحُ

سالم	الفعل (36)	التفع (18)	الجمع (58)	الجعل (59)	بنانا
	(کرنا)	(نفع دینا)	(جمع کرنا)	(بنانا)	
	الجمع (58)	السحر (77)	البعث (74)	الطبع (74) (مہر لگانا)	
	(جمع کرنا)	(جادو کرنا)	(بھیجنا)		
مہوز العین	السؤال (72)	(پوچھنا)			
	(پوچھنا)				
مہوز اللام	البدء (4)	الملا (88)	القرأة (94) (پڑھنا)		
	(شروع کرنا)	(بہرنا)			
مثال واوی	الوقوع (51)	(واقع ہونا)			
	(واقع ہونا)				

باب: سَمِعَ يَسْمَعُ

سالم	الْعِلْمُ (5) (جاننا)	الْعَمَلُ (4) (عمل کرنا)	الْلَبْثُ (16) (ٹھہرنا)
	الْخَسْرُ (45) (نقصان اٹھانا)	السَّمْعُ (42) (سننا)	الرَّهْقُ (26) (بے وقوف ہونا)
	الْعَمَةُ (11) (متتیر ہونا)	الصَّرْفُ (32) (پھیرنا)	الْفَرْحُ (22) (خوش ہونا)
	الْكُرَةُ (82) (ناپسند کرنا)		
مرضعف	الْمَسُّ (12) (چھونا)		
مہموز القاء	الْإِذْنُ (59) (اجازت دینا)		
مہموز الام	الْبِرَاءَةُ (نجات پانا)		
اجوف وادی	الْخَوْفُ (15) (ڈرنا)		
ناقص وادی	الرِّضْوَانُ (7) (راضی ہونا)	الْحَزْنُ (رسوا ہونا)	
ناقص یائی	الْغِنَى (36) (بے نیاز ہونا)	الْعَمَى (ناپیدنا ہونا)	

باب: كَرَّمَ يَكْرُمُ

سالم	الْكِبْرُ (71) (بڑا ہونا)
------	---------------------------

باب: حَسِبَ يَحْسِبُ

لفيف مفروق	الْوَلَايَةُ (مدد کرنا)
------------	-------------------------

باب: افعال

الإِنذَارُ (2)	الإِهْلَاكُ (13)	الإِشْرَاكُ (18)	الإِنزَالُ (24)	سالم
(ڈرانا)	(ہلاک کرنا)	(شریک کرنا)	(اتارنا)	
الإِحْسَانُ (26)	الإِسْلَافُ (30)	الإِسْرَافُ (30)	الإِخْرَاجُ (31)	
(احسان کرنا)	(آگے بھیجنا)	(حد سے تجاوز کرنا)	(نکالنا)	
الإِبْصَارُ (43)	الإِسْمَاعُ (42)	الإِبْطَالُ (82)	الإِغْرَاقُ (73)	
(دیکھنا)	(سنانا)	(باطل کرنا)	(غرق کرنا)	
الإِجْمَاعُ (71)	الإِنظَارُ (71)	الإِفْلَاحُ (17)	الإِصْلَاحُ (82)	
(جمع ہونا)	(مہلت دینا)	(کامیاب ہونا)	(اصلاح کرنا)	
الإِذْرَاكُ (90)	الإِكْرَاهُ (99)	الإِكْرَاهُ (99) (زبردستی کرنا)		
(پالینا)				
الإِيْمَانُ (3)	الإِيْمَانُ (3) (ایمان لانا)			مہوز الفاء
الإِعَادَةُ (4)	الإِحَاطَةُ (22)	الإِجَابَةُ (89)	الإِقَامَةُ (87)	اجوف واوی
(لوٹانا)	(گھیرنا)	(جواب دینا)	(تاقم کرنا)	
الإِفَاصَةُ (61)	الإِرَادَةُ	الإِذَاقَةُ (21)	الإِمَاتَةُ (56)	
		(چکھنا)	(مارڈالنا)	
الإِبَانَةُ	الإِصَابَةُ (107)	الإِفَاصَةُ (61)	الإِغْتَاةُ (36)	اجوف یائی
	پہنچانا	(مشغول رہنا)		
الإِذْرَاءُ (16)	الإِنجَاءُ (23)	الإِغْشَاءُ (27)	الإِغْتَاةُ (36)	ناقص یائی
(خبر دینا)	(نجات دینا) واوی	(رات کا تاریک ہونا)	(دور کرنا)	
الإِلْقَاءُ (81)	الإِلْقَاءُ (81) (ڈال دینا)			
الإِحْيَاءُ (56)	الإِحْيَاءُ (56) (زندہ کرنا)			لفیف مفروق
الإِحْيَاءُ (56)	الإِحْيَاءُ (56) (زندہ کرنا)			

باب: تَفْعِيل

التَّبْشِيرُ (2) (بشارت دینا)	التَّدْبِيرُ (3) (غور کرنا)	التَّفْصِيلُ (5) (تفصیل کرنا)	سالم
التَّقْدِيرُ (5) (اندازہ کرنا)	التَّعْجِيلُ (11) (جلدی کرنا)	التَّكْذِيبُ (17) (جھوٹ بنانا)	
التَّبْدِيلُ (15) (بدل دینا)	التَّمْتِيعُ (98) (مدت تک فائدہ اٹھانا)		
التَّصْدِيقُ (سچا جاننا)	التَّذْكِيرُ؟؟ (نصیحت کرنا)		
التَّوَابِلُ			مہوز الفاء
التَّنْبِئَةُ (18) (خبر دینا)			مہوز اللام
التَّزْيِينُ (24) (مزین کرنا)	التَّسْيِيرُ (22) (چلانا)	التَّزْيِيلُ (28) (پھوٹ ڈالنا)	اجوف یائی
التَّنْجِيَةُ (73) (نجات دینا) واوی			ناقص یائی

باب: مُفَاعَلَةٌ

المُرَادُ (107)	مضاعف
المُجَاوِزَةُ (90) (آگے بڑھ کر جاننا)	اجوف واوی

باب: تَفْعُلُ

التَّفَكُّرُ (24) (غور کرنا)	التَّذَكُّرُ (3) (نصیحت حاصل کرنا)	سالم
التَّوَكُّلُ (71) (بھروسہ کرنا)		مثال واوی
التَّوَفَّى (46) (وفات پانا)	التَّوَلَّى (72) (پیٹھ پھیرنا)	لغیف مفروق

باب: تَفَاعُلُ

التَّعَاوُفُ (45) (ایک دوسرے کو پہچانا)	سالم
التَّعَالَى (18) (بہت بلند ہونا)	ناقص واوی

باب: اِفتِعال

الإِسْتِمَاعُ (42)	الإِخْتِلَافُ (19)	الإِنتِظَارُ (20)	الإِخْتِلَاطُ (24)	سالم
(متوجه ہو کر سننا)	(اختلاف کرنا)	(انتظار کرنا)	(مل جانا)	
الإِئْتِافَاتُ؟؟ (78)				
الإِئْتِبَاعُ (35)	الإِئْتِخَازُ (69)			مثال واوی
(پیروی کرنا)				
الإِئْتِدَاءُ (54)	الإِئْتِدَاءُ (تجاوز کرنا)			ناقص واوی
(ندیہ دینا) یائی				
الإِئْتِرَاءُ (شک کرنا)	الإِئْتِرَاءُ (17)	الإِئْتِدَاءُ (108)		ناقص یائی
(جھوٹ باندھنا)	(جھوٹ باندھنا)	(ہدایت پانا)		
الإِئْتِقَاءُ (6)	الإِئْتِقَاءُ (6)			لفیف مفروق
(پرہیز کرنا)	(پرہیز کرنا)			
الإِئْتِوَاءُ (3)	الإِئْتِوَاءُ (3)			لفیف مقرون
(تصد کرنا)	(تصد کرنا)			

باب: اِسْتِفْعَال

الإِسْتِعْجَالُ (51)	الإِسْتِقْدَامُ (49)	الإِسْتِكْبَارُ (75)	سالم
(جلدی کرنا)	(آگے کو بڑھنا)	(تکبر کرنا)	
الإِسْتِئْخَازُ (49)	الإِسْتِئْخَازُ (49)		مہموز الفاء
(مؤخر کرنا)	(مؤخر کرنا)		
الإِسْتِئْتِبَاءُ (53)	الإِسْتِئْتِبَاءُ (53)		مہموز اللام
(دریافت کرنا)	(دریافت کرنا)		
الإِسْتِئْتِمَامَةُ (89)	الإِسْتِئْتِمَامَةُ (89)	الإِسْتِئْتِاعَةُ (38)	اجوف واوی
(ثابت قدم رہنا)	(ثابت قدم رہنا)	(طاقت رکھنا)	

باب: اِفْعَالٌ

الإِطْمِئِنَانُ (7)	مطمئن ہونا	مہموز اللام
---------------------	------------	-------------

باب: مخلوط

	الِاتِيَانُ (24) (آنا)	مهموز الفاء وناقص واوى (انعال)
	الِارَاءَةُ (46) (دكھانا)	مهموز العين وناقص يائى (انعال)
المَجِيئَةُ (ض) (13) (آنا)	المَشِيئَةُ (ف) (16) (اراده كرنا)	اجوف يائى و مهموز اللام
	التَّبْوِيؤُ (جگه بنانا)	اجوف واوى و مهموز اللام

قرآنی صیغے حل کریں

لفظ/موزون	سہ اقسام	صیغہ	گردان	شش اقسام
الْكَفْرَ (بقرہ: 108)	اسم		مصدر	ثلاثی مجرد
الْكَفْرَةَ (عبس: 42)				
كُفْرَانَ (انبیاء: 94)				
كَافِرٍ (بقرہ: 41)				
الْكَفِرُونَ (بقرہ: 254)				
الْكَافِرِينَ (بقرہ: 19)				
كَافِرَةٌ (آل عمران: 13)				
الْكُوفِرِ (ممتحنہ: 10)				
كُفَارًا (بقرہ: 161)				
كُفَارٍ (بقرہ: 276)				
كُفُورًا (ہود: 9)				
مَا أَكْفَرَهُ (عبس: 17)				
كَفَرُوا (بقرہ: 102)				
كَفَرُوا (بقرہ: 6)				
كَفَرْتُمْ (نحل: 112)				
كَفَرْتُمْ (كهف: 37)				
كَفَرْتُمْ (آل عمران: 106)				
كَفَرْتُمْ (ابراہیم: 22)				
كَفَرْنَا (ابراہیم: 9)				
كُفْرًا (قمر: 14)				

قرآنی صیغے حل کریں

لفظ/موزون	سہ اقسام	صیغہ	گردان	شش اقسام
كَفَرُوا (محمد: 2)	فعل	واحد مذکر غائب	ماضی مثبت معلوم	ثلاثی مزید فیہ
كَفَرْنَا (مائتہ: 65)				
يَكْفُرُوا (بقرہ: 99)				
يَكْفُرُونَ (بقرہ: 61)				
تَكْفُرُوا (نساء: 131)				
تَكْفُرُونَ (بقرہ: 28)				
اَكْفُرُوا (نمل: 40)				
اَنْ يَكْفُرُوا (بقرہ: 90)				
يُكْفِرُوا (نساء: 140)				
يُكْفِرُوا (بقرہ: 271)				
نُكْفِرُوا (نساء: 31)				
لَنْ يَكْفُرُوا (آل عمران: 115)				
لَا يَكْفُرُونَ (آل عمران: 195)				
لَنْ يَكْفُرُونَ (عنكبوت: 7)				
اَكْفُرُوا (حشر: 16)				
اَكْفُرُوا (آل عمران: 72)				
كَفَرُوا (آل عمران: 193)				
فَلَا تَكْفُرُوا (بقرہ: 102)				
وَلَا تَكْفُرُونَ (بقرہ: 152)				

آئیے ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی قدر محترم جناب _____ صاحب

امید ہے کہ مزاج بخیر و عافیت ہوں گے!

آپ اور آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ بہت خوشی ہوگی کہ آپ اس کتاب سے متعلق اپنی کوئی قیمتی رائے، کوئی تجویز اور مفید بات بتائیں۔

یقیناً آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون فرما کر ان شاء اللہ تعالیٰ ادارے کی کتب کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے میں مددگار بنیں گے۔

امید ہے جس جذبے سے یہ گزارش کی گئی ہے، اسی جذبے کے تحت اس کا عملی استقبال بھی کیا جائے گا اور آپ ضرور ہمیں جواب لکھیں گے۔

☆ کورس کا تعارف کیسے ہوا؟

☆ کیا آپ نے اپنے محلہ کی مسجد، لائبریری یا مدرسہ/اسکول میں اس کتاب کو وقف کر کے یا کسی رشتہ دار وغیرہ کو تحفہ میں دے کر علم پھیلانے میں حصہ لیا؟ نہیں تو آج ہی یہ نیک کام شروع فرمائیں۔

☆ کتاب پڑھ کر آپ نے کیا فائدہ محسوس کیا؟

☆ کتاب کی کمپوزنگ، جلد اور کاغذ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

□ اعلیٰ ہے

□ بہتر ہے

□ معمولی ہے

☆ کتاب کی قیمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

□ مہنگی ہے

□ مناسب ہے

□ سستی ہے

☆ کتاب کی تیاری میں مدد کرنے والوں اور پڑھنے والوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہوں گے

□ کبھی کبھی

□ نہیں

□ ہاں

دوران مطالعہ اگر کسی غلطی پر مطلع ہو جائیں تو ان نمبروں پر میسج یا اطلاع فرمائیے:

0331-2607207 - 03312607204

{ مفتی منیر احمد صاحب کی تالیفات و رسائل }

نمبر شمار	کتاب	نمبر شمار	کتاب
1	فہم ایمانیات	19	فہم جمعۃ المبارک
2	فہم محرم الحرام کورس	20	حلال و حرام رشتوں کی پہچان کے رہنما اصول
3	فہم صفر کورس	21	شادی مبارک
4	فہم شعبان کورس (شب براءت)	22	کامیاب گھرداری
5	فہم زکوٰۃ کورس	23	بیٹی مبارک ہو
6	فہم رمضان کورس	24	جذباتی رویوں سے ایسے بچیں
7	فہم حج و عمرہ کورس	25	سیرت کونز لیول 1
8	فہم قربانی کورس	26	سیرت کونز لیول 2
9	فہم دین کورس	27	حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
10	فہم طہارت کورس	28	حدیث اور اُس کا درجہ کیسے پہچانیں
11	فہم نماز کورس	29	ڈپریشن، اسٹریس کے اسباب اور اُن کا حل
12	فہم حلال و حرام کورس	30	مالی معاملات اور اخلاقی تعلیمات
13	فہم مسائل حیض و نفاس	31	مالی معاملات اور شرعی تعلیمات
14	سخت بیماریوں، پریشانیوں کا یقینی علاج	32	مالی تنازعات اور ان کا حل
15	توبہ	33	فہم میراث
16	استخارہ	34	آسان علم النحو
17	مسنون اذکار	35	علم دین اور اس کے سیکھنے سکھانے کا صحیح طریقہ
18	فہم نکاح و طلاق	36	طبی اخلاقیات

